

دعوتِ اِلی اللہ

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن
لاہور

دعوتِ الی اللہ

کی ضرورت و اہمیت
اور اس کے
اصول و مبادی

ایک تقریر جو یکم اکتوبر ۱۹۶۷ء کو جامعہ محمدیہ
ملتان کے سالانہ اجتماع میں کی گئی!!

ڈاکٹر اسرار احمد



مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جسٹڈ

۳۶-۷ ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون۔ ۳-۵۸۶۹۵۰۱

نام کتاب _____ دعوت اہل اللہ
بار اول تابارہم (مارچ ۱۹۶۵ء) _____ ۲۰۳۰۰
بار دوم (جنوری ۲۰۰۳ء) _____ ۲۳۰۰
ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور
فون: ۵۸۶۹۵۰۱۔۳
مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور
قیمت _____ ۸ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ تلاوت کی گئی اور عرض کیا گیا:

بزرگوار بھائیو!

حقیقت یہ ہے کہ میرا یہ مقام ہرگز نہ تھا کہ میں ایسے عظیم الشان دینی اجتماع سے خطاب کرتا، تاہم جب آپ حضرات کا حکم ہے تو میں کچھ معروضات پیش خدمت کرتا ہوں۔ اور اب جبکہ آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع مل ہی گیا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کے گوش گزار کروں جو حقیقتاً مفید ہو اور جس سے کم از کم ان لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچے جو ”الْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ“ کی کیفیت کے ساتھ ان گزارشات کو سنیں اس لیے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں امید کی جاسکتی ہے کہ وہ

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات

میں نے اپنی گزارشات کا عنوان قرآن حکیم کی اس آیت کو بنایا ہے ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ یعنی اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوسکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں! یعنی میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے ”دعوت الی اللہ“ اس موضوع کا انتخاب میں نے دو وجوہات کی بنا پر کیا ہے:

امت کا فرض منصبی

ایکٹیکہ میں اور آپ جس امت کے افراد ہیں اس کا مقصد وجود اور عرض تائیس ہی ”دعوت الی اللہ“ ہے اور دنیا میں ہماری عزت اور سربلندی ہی نہیں ہمارے وجود اور بقا کا انحصار

مجھی اسی بات پر ہے کہ ہم اپنے اس فرض منصبی کو کا حقا ادا کریں۔ سورۃ البقرہ کے ترجموں کو مع میں تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "ہم نے تمہیں ایک آہستہ و سوا اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ تحویل قبلہ کا حکم دراصل علامت (symbol) تھی اس امر کی کہ اب متوتلیان مسجد اقصیٰ یعنی بنو اسرائیل سے ہدایت خداوندی کی امانت داری و علمبرداری کا منصب سلب کر لیا گیا اور متوتلیان مسجد حرام یعنی بنو اسمعیل اس منصب پر فائز کر دیئے گئے۔ ظاہر ہے کہ اُمتِ مسلمہ کا اہل مرکز اور قلب (nucleus) ہونے کی حیثیت بنو اسمعیل ہی کو حاصل ہے، ان ہی کی زبان خدا کی کتاب کی حامل بنی اور ان ہی کے رسوم و رواج سے قطع و برید اور حذف و اضافے کے ساتھ خدا کی آخری شریعت کا تانا بانا تیار ہوا۔ "الْخَيْرِينَ" یعنی وہ دوسری اقوام جو بعد میں اس اُمت میں شامل ہوتی چلی گئیں، معنوی اعتبار سے یقیناً "بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" یعنی ان ہی میں سے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا بڑا ہی فضل ہے جو ان پر ہونگے یہ شرف اُمتیں "ہی کو حاصل ہوا کہ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان ہی میں اور ان ہی میں سے ہوئی۔"

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا!

ہر ذمی کے واسطے وار و رس کہاں!

اس اُمت کی وجہ تکمیل اور عرض تائیس سورۃ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان ہوئی کہ: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ مَنًّا بِاللَّهِ "تم وہ بہترین اُمت ہو جسے نوع انسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور کتے ہو بدی سے اور ایمان رکھتے ہو خدا پر۔" گویا دنیا کی دوسری تمام اقوام دائم اپنے لیے جیتی ہیں اور ان کا مطمح نظر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ ان کا بل بل اور عظمت دو بالا ہو اور وہ آدم کی زیادہ سے

لے اشدہ ہے سورۃ البقرہ کی آیات ۲ تا ۴ کی جانب!

زیادہ اولاد کو، بس پڑے تو عسکری و سیاسی در نہ کم از کم معاشی و تہذیبی تسلط کے جنگل میں گرفتار کر کے اپنے تابع رکھ سکیں لیکن اس اُمت کا جینا اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کا نام رہے، اس کا کلمہ بلند ہو، حتیٰ کا بول بالا ہو، نیکیاں عام ہوں اور اچھائیاں پروان چڑھیں اور بدیاں ختم ہوں اور برائیوں کا استیصال ہو جائے۔ یعنی یہ اُمت دراصل دنیا میں خدا کی نمائندہ، خیر کا ذریعہ اور شر اور باطل کے استیصال کا ادارہ (institution) ہے۔

جب تک یہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہی، اس کا اپنا بول بھی بالا رہا اور حق کے ساتھ یہ بھی سر بلند رہی۔ لیکن جب اس نے اپنے مقصد وجود کو بھلا دیا اور یہ بھی بس دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئی تو اس پر بھی اسی طرح عتاب خداوندی نازل ہوا جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل پر ہوا تھا۔ اول اول معاملہ صرف "وَإِنْ تَوَلَّوْاْ اَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ" تک محدود رہا اور عالم اسلام کی سیادت بنی اسماعیل یعنی عربوں سے چھین کر کُردوں اور سلجوقیوں کو عطا کر دی گئی۔ اس پر بھی آنکھیں نہ کھلیں تو فتنہ تاتار کی صورت میں قبر خداوندی کا "وعدہ اولیٰ" نازل ہوا اور "بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَلْنَا اُولٰٓئِیْنَ شَدِيْدِيْنَ فَجَا سَوْاْ خِلْلَ الدِّيَارِ" کا ہو ہوا نقشہ کھینچ گیا۔ تاریخ حیران کہ اہل ہند فتنہ تاتار کا انتظار ہی کیوں کرتے رہ گئے اور کیوں ان کا رخ تیر کی مانند سیدھا بغداد کی طرف رہا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس اُمت کا مرکز نبو اسماعیل تھے اور اس کا قلب بغداد تھا اور اہل گوشالی ان کی مطلوب تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد مالوں میں سے جو قومیں ابھریں، وہ بنی اسماعیل میں سے تھیں، آخر دین "میں سے تھیں یعنی ہند میں مغل اور ایشیائے کوچک میں ترک جو بالآخر خلافت اسلامی کے بھی وارث ہوئے۔ اس طرح بنو اسماعیل کی مذہبی و دینی سیادت کا آخری امتیازی نشان بھی مٹ گیا۔ ان کی حیثیت ترکوں کے حکوموں اور باج گزاروں سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ یہ تو اس صدی کے واقعات ہیں کہ اس کے

۷ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تمام رہے: اقبال

۸ سورہ محمد اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اسی مقام پر فائز کر دے گا:

اوائل میں وہ ترکوں کی غلامی سے نکل کر پہلے یورپی تسلط کے تحت آئے اور پھر صدی کے وسط کے لگ بھگ آہستہ آہستہ اس سے بھی نجات پائی اور آزادی کا سانس لیا۔ اس کے بعد کی ربع صدی اس داستان کا المناک ترین باب ہے کہ آزاد ہو کر بھی جب انہوں نے دین سے بے رخی اختیار کی، تعیش و تنعم کی زندگی کو اختیار کیا اور مغربی تہذیب کے ظاہر سے متاثر ہو کر عیاشی اور کجروی و عملی آوارگی کو شعار بنایا، ملت اسلامی کی بجائے نسلی و وطنی عصیتوں کو ابھارا، شریعت کو پس پشت ڈالا اور مذہب کے نام لیواؤں پر مظالم ڈھائے تو بالآخر کم از کم بنی اسرائیل کی حد تک "وَعَسَدًا ذُخْرَةً" بھی آکر رہا اور اللہ نے اپنی ایک علی الاعلان (proclaimed) مغضوب قوم کے ہاتھوں انہیں ایسی ذلت آمیز شکست دی کہ رہے نام اللہ کا۔

حالیہ عرب اسرائیل جنگ سے ذلیل و خوار تو پوری ملت اسلامی ہوتی اور یہ داغ بروائی لازماً سارے ہی مسلمانوں کے حصے میں آیا، لیکن اس میں "الَّذِي قَوْلُهُ كَذِبٌ" کا مصداق بہر حال عرب ہی ہیں۔ دینی پستی اور مذہب سے بُعد یقیناً اس وقت پوری امت مسلمہ ہی کا حال ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں مصر، شام اور لبنان کی بدستیاں دوسرے مسلمانوں سے کئی ہاتھ آگے ہیں۔ تو پھر کون سے تعجب کی بات ہے اگر ذلت و رسوائی میں سے بھی سب سے بڑا حصہ انہی نے پایا۔ ویسے بھی جب عزت و فضیلت اور شرف میں مقدم تھے تو منطقی

راقم الحروف نے جولائی ۱۹۶۷ء کے شوق میں سیاہ حاشیے میں لکھا تھا: "گزشتہ ماہ اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانان عرب کو جو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی اور جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے دلوں میں درد کی شدید ٹیسس محسوس کیں، پھر نام نہاد اقوام متحدہ نے اس معاملے میں سرورہی ہی نہیں باقاعدہ اسرائیل نوازی کا جو رویہ اختیار کیا اس سے کم از کم مسلمانان عرب کے لیے تو ایک بار ضریبت علیکھسو الذلّة وَالْمُسْكَنَة" کی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس میں کئی ہزار سال تک بنی اسرائیل مبتلا رہے ہیں! اس وقت یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ صرف چار ساڑھے چار سال بعد ہی سقوط دمشق و پاکستان کی صورت میں غریب خداوندی کا ایک کوڑا "اخیرین" کے ایک اہم حصے کی پٹی پر پڑنے والا ہے!

طور پر ذلت و رسوائی کا بھی حصہ اولیٰ انہی کا ہونا چاہیے۔

قصہ طویل کھینچ گیا۔ عرض صرف اس قدر کرنا تھا کہ اس اُمت کی غرض تائیس دعوت الی اللہ ہے اور اس پر نہ صرف یہ کہ اس کی عزت و عظمت کا انحصار بلکہ وجود و بقا کا دار و مدار بھی ہے اور اُمّیّین اور اٰخِرِیْن دونوں کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ "عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ" کی نوید جانفزا سے گرتے ہوئے حوصلوں کو از سر نو استوار اور ٹوٹی ہوئی اُمیدوں کو نئے سرے سے قائم کریں اور "وَ اِنْ عُدْتُمْ عَدَاۤءًا لَّهٗ" کی وعید سے لرزائل ترسائل ہو کر اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پلے درپلے تنبیہات اسی لیے ہیں کہ ہم جان لیں کہ ہمارے لیے "فَفِرِّوْا اِلَى اللّٰهِ" کے سوا کوئی راہ نہیں ہے اور اپنی عظمت و سطوتِ پارینہ کی بازیافت ہی نہیں بلکہ اپنے وجود و بقا کی ضمانت کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل دعوت الی اللہ کے سوا موجود نہیں ہے!

رسول اللہ کی منوگہ ترین سنت

دو سبب آج کے اس اجتماع میں اس موضوع پر گفتگو کا یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں اور جن کا مسلک و مشرب ہی یہ ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں وہی کرنا چاہتے۔ مبارک ہیں آپ لوگ اگر واقعہً آپ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا جذبہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دوسری سنتیں تو یاد ہیں اور ان پر آپ عمل بھی پوری شدت کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے آپ دوسروں سے جنگ و جدل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جس سے زیادہ منوگہ سنت اور کوئی نہیں جس پر آپ کا توازن عمل ظاہر و باہر جس پر آپ اپنی بعثت کی پہلی ساعت سے حیات

دنوی کی آخری گھڑی تک ہر لحظہ و ہر آن عمل پیرا ہے، اسے آپ نے نہ صرف یہ کہ عملاً ترک کر دیا ہے، بلکہ ٹھٹھا بھی دیا ہے۔ میری مراد "سنتِ دعوت" سے ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ دعوتِ تبلیغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ترین سنت نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھر حضورؐ کو دعوت و تبلیغ سے زیادہ کسی بات کا دھیان یا دھن رہی ہے اب اگر سنت نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز عمل کا، تو خدا را سوچیے کہ آنحضرتؐ کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے "بَلِّغُوا عَنِّي" کے تاکید ہی حکم پر غور کیجیے کہ اس کو "وَلَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُ" کے ذریعے کس قدر عمومیت دے دی گئی ہے۔ رفع یدین جس کے بارے میں آپ بہت جھگڑتے ہیں، کون ہے جو یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ اس پر آپؐ عمر بھر عمل پیرا رہے! آئین بالجہر کے بارے میں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس پر آپؐ نے از اول تا آخر مداومت کی ہے، بکس اس کے "دعوتِ تبلیغ" وہ سنت نمونہ ہے جس پر آپؐ ۲۳ سال کی پوری مدت کے دوران مسلسل عمل پیرا رہے۔ گویا دعوتِ ابی اللہ ایک طرف تو از روئے قرآن اُقتِ مسلمہ کا مقصد وجود اور فرضِ منصبی ہے اور دوسری طرف ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ترین سنت ہے۔ لہذا اسی موضوع پر میں آپ سے چند باتیں کروں گا۔!

دعوتِ ابی اللہ کے مراحل و مدارج

'دعوتِ دین' یا دعوتِ ابی اللہ، کوئی مفروضہ یا بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد پہلو اور بے شمار مراتب و مدارج ہیں۔ یہ ایک فرد کی اپنی ذات اور اس کے اہل و عیال (هَتُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) سے ہو کر، اس کے کنبے قبیلے (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) پھر قوم (يَلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ) اور بالآخر پوری نوحِ انسانی (لِيَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) تک پہنچتی ہے۔ اس کی ابتدا محض خبردار کرنے اور ڈرنا دینے "يَا أَيُّهَا الْمَدْيُنَةُ قُمْ فَأَنْذِرِي" سے ہوتی ہے، لیکن اس کا منہا تے مقصود یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی کبریائی کا اعلان و

اظہار ہو (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) حسب استعداد و مذاق مخاطبین اسے بلند پایہ علمی و عقلی استدلال کے ساتھ بھی پیش کیا جانا چاہیے (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ) اور توشروہ و لٹریچر و نصیحت (وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) کے ذریعے بھی۔ پھر کٹ جھتوں اور ہٹ دھرم لوگوں کے مقابلے میں بحث و جدال کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) اور وقت آنے پر جہاد و قتال بھی اسی دعوتِ الہی کی بلند ترین منازل قرار پاتے ہیں (وَأَقَاتُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَسْأَلَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ) تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند نہ ہو اسی کا حکم چلے اور لوگ عدل قسط پر قائم ہوں (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)

آج کی اس گفتگو میں میں دعوتِ الی اللہ کے ان بلند تر مراتب سے بحث نہیں کرنا چاہتا جن کے لیے اجتماعی جدوجہد لازمی ہے یعنی ایک تو تمام بنی آدم پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جانب سے تمام محبت کا وہ فریضہ میری آج کی گفتگو کے دائرے سے خارج ہے جو آپ کی اُمت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتا ہے اور دوسرے خود اس اُمت کی اجتماعی اصلاح کا وہ کام بھی میری آج کی گفتگو کا براہِ راست موضوع نہیں ہے جو بجائے خود ایک منظم اجتماعی جدوجہد کا متقاضی ہے۔ اس کے برعکس آج میں ”دعوتِ الی اللہ“ کی ان ابتدائی اور بنیادی منزلوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن تک ہر مسلمان کی رسائی ممکن بھی ہے اور لازم بھی!

سُنَّتِ رَسُولِ كَا مُسَخَّر

اس سے پہلے میں اس سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں تبلیغ کے مقدس اور عظیم الشان فریضے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر مذہبی فرقے نے یہ تبلیغ کی ایک سروسِ نجاری کی ہوتی ہے اور اس کے تحت تنخواہ دار مبلغ بعض اختلافی مسائل پر میناظرانہ انداز کی تقریریں دیبات و قصبات میں کرتے پھرتے ہیں جس سے اس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ ان کے ہم مسلک و ہم مشرب لوگوں پر وقتی طور پر ایک سرور کی کیفیت

طاری ہو جاتی ہے کہ واقعہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارا ہی مسلک صحیح ہے! ایسے مبلغین کی اکثریت کو تو اس کی سرے سے جرات ہی نہیں ہوتی کہ اپنے سامعین کو براہ راست خطاب کر کے یہ کہہ سکیں کہ تمہارے اندر یہ فرمایاں ہیں انہیں دُور کرو، سودی کاروبار نہ کرو غلط حسابات نہ رکھو، رشوت نہ لو، اسراف نہ کرو۔ بعض واعظین اگر برائے بیت ایسی کوئی بات کہہ بھی دیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ جس اجتماع میں وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس کا اہتمام ان تمام غلط کاموں کی آمدنی سے ہوتا ہے! سامعین کی اکثریت تھوڑی دیر کے لیے اپنے مقررین کی اس حق گوئی سے بھی لذت اندوز ہو سکتی ہے۔ رہے میاں حضرات اور چوہدری صاحبان تو وہ زیر لب مسخر کر اس وقت تو ایک خاموش مگر تلخ طنز پر اکتفا کر لیتے ہیں مگر بعد میں اپنی نجی گفتگوؤں میں اپنے مذہبی پیشواؤں کی گھریلو نجی خامیوں اور کوتاہیوں کا اہانت آمیز تذکرہ کر کے بدلہ چکا لیتے ہیں اور اس پورے سلسلے کا نام ہے تبلیغِ دین!

حضرات! میں پورے سوز اور درد کے ساتھ یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ متواتر اور تکرر شدہ سنت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح نادانستہ طور پر ہم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تحقیر کے مترسب نہیں ہو رہے؟ منبر رسول پر کھڑے ہونے والوں کی ہمارے اس معاشرے میں جو قدر و منزلت اور عزت و وقعت ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا اصل سبب خود وہ ہیں یا دوسرے اس سے کیا بالواسطہ خود اس محترم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر نہیں ہوتی جس سے منبر منسوب ہے۔ خدا کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی فرمائیں! تنخواہ پر کام کرنا حرام نہیں۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ معاوضے پر کام کرنے والا مدرس و معلم ہو سکتا ہے داعی و مبلغ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس راہ کی توبہ

واضح رہے کہ اردو قرآن علماء و علمائے آئینہ سلسلہ کا فرض منصبی وہ ہے جس کی جانب اس آیت کریمہ میں اشارہ ہوا کہ تَوَلَّوْا بِطَهْمَہُمُ الرِّبَا بَیِّنًا وَالْاِحْبَارَ عَنْ قَوْلِهِمْ اَلْاِثْمَ وَاکْثَرُوْهُ الشَّمْعَتَ رَکِبُوْنَ نہیں روکتے انہیں ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟

سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر طرح کے مفادات و اغراض سے بالکل پاک ہو کر خالص نصیح و خیر خواہی کے جذبے سے اور اس اعلان کے ساتھ کام کیا جائے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ،
 إِنَّا أَجْرِيَّ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

احیائے سنت کا اجر و ثواب

آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ جس نے میری کسی ایسی ایک سنت کو زندہ کیا جس پر عمل متروک ہو چکا ہو تو اس کو سو شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں آج آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ دعوت کو زندہ کریں اور اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آپ میں سے ہر شخص فیصلہ کرے کہ آج سے میں دین کا داعی اللہ کی طرف پکارنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ دعوت کا ادنیٰ شیع ہوں!

دعوت الی اللہ کی اصل شرط: اللہ کی ربوبیت پر اعماد

اس بات کو بالکل دل سے نکال دیں کہ دین کی دعوت کے لیے دین کے کسی سلبے چوڑے علم کی ضرورت ہے۔ آج "علم دین" جن معلومات کا نام ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ میں سے اکثر سے کم حاصل تھیں۔ انہیں جو علم بہ تمام و کمال حاصل تھا وہ "علم ایمان" تھا جیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ نَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ "ہم نے ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں!"

منطقی طور پر بھی دعوت الی اللہ کا اصل لازمہ ایمان باللہ ہی کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو آیت میں نے سنائی تھی اس سے متصلاً قبل ایمان باللہ کی بلند ترین منزل یعنی ربوبیتِ خداوندی

پر دل کے جم اور ٹھک جانے اور اس پر استقامت حاصل ہونے ہی کا تذکرہ ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ شَعَرًا سَتَقَامُوا... الخ "دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا کی ربوبیت پر پوری طرح مطمئن اور اس پر مضبوطی سے قائم ہوں۔"

دوسری شرط: عمل صالح

'دعوت الی اللہ' کا دوسرا لازمہ یہ ہے کہ داعی کی عملی زندگی میں ایمان باللہ کے اثرات محسوس و مشہور ہوں اور وہ عمل صالح کا ایک حسین نمونہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں بھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کے فوراً بعد وَعَمِلَ صَالِحًا کا تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دعوت کے موثر ہونے کی شرط لازم ہے! اس کے بغیر، تعلیم و تدریس ہو سکتی ہے، اعلیٰ سطح کا علمی کام بھی کیا جاسکتا ہے اور اس میں ٹھک نہیں کہ ان چیزوں کا اپنا ایک مقام اور ان کی اپنی ایک افادیت ہے لیکن 'دعوت'، موثر صرف وہی ہو سکتی ہے جس کا شاہد 'عمل صالح' ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ 'عمل صالح' ہی وہ مشکل 'گھاسی' ہے جس سے جی چرا کر ہم لوگوں نے یہ تقسیم کار کی ہے کہ کچھ لوگ اس کی قید سے آزاد ہوں اور حلال و حرام سب ذرائع سے دولت کماتا کچھ دوسرے لوگوں کو پالیں، جو دین کی تبلیغ کا کام کریں۔ ذہانت کا تو یہ یقیناً ایک شاہکار ہے! لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے خلاف اس 'شریفانہ معاہدے' سے بڑی سازش شاید کوئی اور نہ ہو!

دعوت الی اللہ کا اصل ہدف

یہ آیا کر یہ دعوت کے مطلوبہ عمل کے ایک اور پہلو کو بھی واضح کر رہی ہے اور وہ یہ کہ دعوت اللہ اور اس کے دین کی طرف ہونی چاہیے نہ کہ کسی خاص فرد، یا گروہ، یا جماعت یا فرقے یا مسلک و مشرب کی طرف۔ دعوت کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس

کی رہبریت کا اقرار کریں اور اس پر پورے اطمینان قلب کے ساتھ یقین رکھیں اسی کی اطاعت و بندگی کو اپنے اوپر لازم کریں اور اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بنائیں اور اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں۔ اس بات کو اس آیت کریمہ میں دو طرح واضح فرمایا گیا: ایک ”مَنْ دَعَىٰ إِلَى اللَّهِ“ کے الفاظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ دعوت اللہ کی طرف ہو کسی خاص فرد یا جماعت کی طرف نہ ہو۔ اور دوسرے ”وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ داعی خود بھی صرف مسلمان ہونے کا داعی ہو گا اور کسی خاص گروہ یا فرقے کی جانب اپنے آپ کو منسوب نہ کرے اور اس کی دعوت بھی صرف اسلام کی طرف ہونے کی شرط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو دین بس اسلام ہی ہے: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)

تیسری شرط: تواضع اور انکساری

قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ مختصر ترین الفاظ میں وسیع ترین مفہوم کا بیان کر دیتا ہے۔ یہاں ”إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ میں ایک اور فتنے کی بیج کنی بھی کر دی گئی ہے جس میں داعی کے مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے یعنی مقام دعوت پر فائز ہونے کا تجربہ غرور اور گھمنڈ جس سے ایک طرف داعی خود نڈہ درگاہ حق ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اس کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ میں ایک داعی حق کے قلبی تذلل و تواضع کی کیفیت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی بس ایک مسلمان ہی ہوں اور عام مسلمانوں کے کسی طرح بھی فضل یا اعلیٰ نہیں ہوں۔

دو فتنوں کا سدباب

اس طرح ”إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ سے بیک وقت ایسے دو فتنوں کا سدباب کر لیا

گیا جن میں عموماً اصحاب دعوت و عزیمت کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک یہ کہ ان کی دعوت اُمت میں ایک نئے فرقے کی پیدائش کا سبب بن سکتی ہے جس سے افتراق و انشاع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا سدباب اس سے ہو جاتا ہے کہ داعی اور اس کے ساتھی یہ بات ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ ہم بھی مسلمانوں ہی میں سے ہیں اور اُمتِ مسلمہ ہی کا ایک جزو ہیں کوئی علیحدہ چیز نہیں! اور دوسرے یہ کہ داعی کی اپنی شخصیت ایک نیابت بن جائے جس کی پرستش شروع ہو جائے۔ اس فتنے کی ابتدا اہل میں داعی کی اپنی ذات سے ہوتی ہے یعنی پہلے خود اس کے اپنے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ”چیزے دگر“ ہوں۔ داعی کے قلب کا یہ احساس اس کے قریبی ساتھیوں پر عکس ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ ”پیراں نے پرند و مریداں سے پرانند“ کے مصداق داعی کی شخصیت لات و منات اور عُزری و ہبل کی فہرست میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا سدباب صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ داعی کے سامنے ہمیشہ حقیقت عیان رہے کہ ”اِنِّیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ“ میں بھی بس ایک عام مسلمان ہوں اور اگر اللہ و لا نقولنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ قَسْمُوْنَ“ کے مصداق حالتِ اسلام ہی میں اٹھالے تو بس یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے!

سب سے اعلیٰ کام اور سب سے عمدہ بات!

”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا“ کے الفاظ پر بھی غور فرمایئے! ان الفاظ میں اس حقیقت کی نجات اشارہ ہے کہ یوں تو دنیا میں ہر صاحب صلاحیت آدمی کسی نہ کسی بات کی دعوت دیتا ہی ہے، کوئی خاندان یا باوردی کے مفادات کی پکار لگاتا ہے تو کوئی ملک و قوم کی عظمت کا راگ الاپتا ہے، کوئی جمہوریت کے قیام کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اشتراکیت کے نفاذ کا داعی بنتا ہے لیکن ان سب سے بہت بلند، اعلیٰ اور ارفع دعوت اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارتا اور اس کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انسان کے لیے اس مرتبے سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں کہ وہ ”داعیاً

إِلَى اللَّهِ" اور "سِرًا جَاءَتْ سِيْرًا" صلی اللہ علیہ وسلم سے کسبِ نور کر کے خود بھی ہدایت کا ایک چھوٹا سا چراغ بن جاتے۔ "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ مِنَ التَّنْذِيرِ" آپس چاہیے کہ اسی کی حرص کریں جو کس نبیوانے

خلاصہ کلام

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے:

۱- اُمتِ مسلمہ کی غرض تاسیس اور اس کا مقصد وجود ہی 'دعوتِ الی اللہ' ہے اور دنیا میں اس کی عزت و سر بلندی ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا تمام تر انحصار بھی اس پر ہے کہ وہ اپنے اس فرض منصبی کو کما حقہ ادا کرے۔

۲- پھر دعوتِ الی اللہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (فداہِ ابی و امی) کی وہ سب سے زیادہ موکدہ سنت ہے جس پر آپ کا تو اثر عملِ ظاہر و باہر ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا اولین تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی سنتِ دعوت کا اتباع کیا جائے۔

۳- مختلف مذہبی جماعتوں اور فرقوں نے اپنے اپنے مسلک و شرب کی اشاعت و توسیع کے لیے مبلغین کی جو 'سولِ سروں' جاری کی ہوئی ہے وہ دعوتِ الی اللہ کے نقطہ نظر سے صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ الٹی مضر ہے!

۴- دعوتِ الی اللہ کے اہل لوازمِ ایمان اور عملِ صالح ہیں نہ کہ فروعاتِ دین کا علم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقینِ واضح اور اعمالِ صالحہ و اخلاقِ حسنہ کے امتزاجِ جمیل کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ داعی میں تواضع و انکسار پایا جائے اور اس کی دعوت بھی محض اللہ اور اس کے دین کی طرف ہو تاکہ نہ اس کی اپنی شخصیت ایک نیابت بن سکے اور نہ ہی اس کے حلقہٴ تجوش ایک نئے فرقے کی صورت اختیار کر سکیں۔

۵- 'دعوتِ الی اللہ' کے بہت سے پہلو اور بے شمار درج و مراتب ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا اصل موضوع 'دعوتِ الی اللہ' کی وہ ابتدائی اور بنیادی منزلیں ہیں جن تک ہر ہاشموی مسلمان کی رسائی ممکن بھی ہے اور لازم بھی!

اُسوۂ حسنہ

اب میں آپ کی توجہ سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ان واقعات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بعثت کے فوراً بعد پیش آئے تاکہ ایک طرف دعوت الی اللہ کے اصل مبادی و اصول اور اس کا صحیح منہج و اسلوب واضح ہو جائے اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ابتدائی دور میں وہ تمام مشکلات پیش آئیں اور ان تمام دل شکنیوں کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی دعوت کے ابتدائی ایام میں پیش آتی لازمی ہیں۔ اور آپ نے بعینہ انہی فطری طریقوں کو اختیار فرمایا جو کسی بھی شخص کو کسی دعوت کے پیش کرنے کے لیے لازماً اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

آپ کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی بھی اخلاق حسنہ کا ایک کامل نمونہ تھی اور آپ کی سیرت و اخلاق پر کسی قسم کا کوئی داغ یا دھبہ موجود نہ تھا۔ آپ نے اپنے حسن اخلاق اور راست معاہگلی کی بدولت اپنے معاشرے سے الصادق اور الامین کے خطابات حاصل کیے تھے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ آپ نے یہ خطابات زندگی کی عین منہجہ میں حاصل کیے تھے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس سے دور کسی گوشہ عاقبت میں بیٹھ کر۔ آپ ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں ایک فعال فرد کی حیثیت سے شریک رہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اس وقت کی علیٰ دین

سطح پر کاروبار بھی فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ دراصل اسی میدان میں آپ کی صداقت اور امانت کے اصل جوہر نمایاں ہوئے۔ بعد میں جب آپ دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت آپ کی دعوت کی تاثیر میں جہاں اس بات کو دخل ہے کہ خود وہ دعوت فطرت انسانی کے نہایت قریب اور عقل صحیح و طبع سلیم کی جانی پہچانی تھی وہاں اس امر کو بھی فیصلہ کن حد تک دخل حاصل ہے کہ اس کا پیش کرنے والا الصادق اور الامین تھا صلی اللہ علیہ وسلم (وفدائہ ابی دآئی!) قرب بعثت کے زمانے میں آپ پر تفکر کا غلبہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ "حاضر موجود" سے

بیزاری اور حقیقتِ نفس الامری کی تلاش و جستجو کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "سَمِعْتُ اَبِيهِ الخَلَاءَ فَكَانَ يَخْلُو بِنَارِ حِرَاءٍ فَيَحْتَنُ فِيهِ" کہ پھر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ غارِ حرا میں خلوت گزینے ہوتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے۔ شروحِ حدیث میں اس عبادت کی نوعیت التفکر و الاعتبار یعنی غور و فکر اور عبرت پذیری بیان ہوئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کتنے عرصے چلا۔ بہر حال وہ وقت آگیا کہ تلاشِ حقیقت میں سرگرداں، کوہدایت نامہ حاصل ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حقیقت پر سے پردے اٹھادیتے گئے۔ آپ کو منصبِ نبوت عطا ہوا اور آپ 'دعوتِ الی اللہ' کے علمبردار اور قرآن مجید کے الفاظ میں "شَاهِدًا اَوْ مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَاَعْيَا اِلَى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ وَبِسَرَاجَاتٍ مُّشِيرًا" بنا دیئے گئے۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

بعثت کے فوراً بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ فطری طور پر سب سے پہلے ان قریب ترین لوگوں کو دعوت دی گئی جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور جو آپ کے اخلاق و عادات سے سب سے زیادہ واقف تھے یعنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، چچا زاد بھائی جنہوں نے آپ ہی کے سایہ عاطفت میں تربیت پائی تھی یعنی حضرت علیؑ، آزاد کردہ غلام حضرت زبیرؓ اور جگر می دوست حضرت صدیق اکبرؓ۔ چنانچہ یہ سب حضرات پہلے ہی دن ایمان لے آئے اور یہیں سے 'دعوتِ الی اللہ' کا پہلا سبق واضح ہوا یعنی یہ کہ یہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اولین میدان انسان کے قریب ترین اعزہ و اقارب ہیں یا عزیز ترین اصدقار و احباب!

پھر ان 'سابقون السابقین' نے اتباعِ سنت کا جو مفہوم سمجھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ دعوت کا جس طور سے اتباع کیا اس کی سب سے درنشاں مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمائی کہ داعیِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خود بھی فوری طور پر

داعی بن گئے اور یہ ان ہی کی دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ 'سابقون الاولون' کے سرکردہ اور گل سبز عثمان غنیؓ، عبدالرحمنؓ، ابن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابو عبیدہؓ ابن الجراحؓ، عثمان بن مظعونؓ وغیرہم اللہ کے دین میں داخل اور امت محمدی میں شامل ہوئے، فجزاہ اللہ عن جمیع المسامین والمسلمات خیر الجزاء۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت رسولؐ کا اصل تقاضا آپ کی سنت و دعوت کا اتباع ہے۔ واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کوئی زانو نشین یا گوشہ گیر انسان نہ تھے بلکہ معاشرے کے ایک متمول اور بااثر شخص اور ایک نہایت کامیاب تاجر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شخص کے احسانات کا حساب چکادیا سواتے ابو بکرؓ کے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بالکل ابتدائی دور کی دعوت و تبلیغ سے امت محمدیہ کو ان باتیں ناز و مستیوں کا تحفہ دے کر جو احسان عظیم کیا ہے، پوری امت اس کا بدلہ چکانے سے تاقیامت معذور رہے گی! ایہ دعوت الی اللہ کے شجرہ طیبہ کی ایک شاخ کا ذکر تھا جو تمام شاخوں میں سب سے بڑی تھی لیکن تہناز تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دعوت پر ایمان لایا وہ فوری طور پر خود بھی اس کا داعی بن گیا۔

”اصل ثابت کی طرف رجوع کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا: **وَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا**

”الاقربین“ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کرو۔ سوچئے! آج بھی کسی کو حکم ہو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی پیغام پہنچا دو تو وہ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کون سا اختیار کرے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑے گھرانے یعنی بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام فرمایا۔ چالیس کے لگ بھگ آدمیوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنی چاہی، لیکن ابو لہب کی بھوس نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور مجلس ویسے ہی برخواست ہو گئی۔ سوچئے کتنی دل شکنی اور کتنی مایوسی کا سامنا حضورؐ کو ہوا ہو گا۔ لیکن داعی الی اللہ کے لیے مایوسی کا کیا سوال، پھر اہتمام فرمایا۔ دوبارہ دعوت فرمائی اور پھر کھانا کھلایا۔ روایت ہے کہ بھرے مجمعے میں سے صرف ایک نوجوان جسے نوجوان کے بجائے بھی بچہ ہی کہنا زیادہ مناسب ہے، ایسا نکلا جس نے ساتھ دینے کا وعدہ

کیا چشم تصور سے دیکھتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو اللہ کی طرف بلا تا ہے۔ لیکن کوئی ایک متنفس بھی شش سے سس نہیں ہوتا۔ حضرت علیؓ تو پہلے ہی سے اپنے تھے انٹوں دعوتوں کا حاصل تو صفر ہی رہا۔ ایسے ہی تو مواقع تھے جن پر وحی الہی تسلی و تشفی کے لیے اترتی تھی کہ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** اور **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ**۔

حکم ہوا؛ **فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ** جس بات کا تجھے حکم ملا ہے اسے بر ملا اور علی الاعلان کہہ! آپ نے وقت کے رواج اور دستور کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا "واصباحاہ" لوگو! خطہ در پیش ہے، فوراً جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پہاڑی کا وعظ، ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا؛ اے معشر قریش! اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آنے کا پتہ سب نے کہا "کیوں نہیں؟ جبکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے!" تب آپ نے فرمایا؛ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا! لوگ سخت برہم ہونے اور کہتے ہیں کہ اسی موقع پر ابو لہب نے کہا تھا **"تَبَّتْ لَكَ، الْهٰذِهِ اَجْمَعَتْنَا"** تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گی ایسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا جس پر سورۃ الہب نازل ہوئی کہ ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ ابو لہب کے ٹوٹ چھے! لیکن ابو لہب کے ہاتھوں کا ٹوٹنا تو ابھی عالم امر میں تھا، عالم واقعہ میں تو اس کا ظہور تو بہت بعد میں ہوا۔ اس وقت جو صورت بالفعل موجود تھی وہ تو یہی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا اندھوں اور بہروں کے سامنے اپنی دعوت پیش فرما رہے تھے جس کا قبول کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پہاڑی کے اس وعظ کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل دلیل داعی کی صداقت و امانت کا وہ عام اقرار ہے جو سوسائٹی میں موجود تھا اور مقام نبوت کی وضاحت کے لیے موقع اور محل کے اعتبار سے بہترین پیش کی گئی ہے کہ جیسے بلند می پر کھڑا ایک شخص دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ پستی میں کھڑے لوگ دوسری طرف

۱۰ پنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کر۔ تو ہماری نگاہوں میں ہے! (الطور: ۷۸)

۱۱ "اور صبر کرو اور تیرا صبر اللہ ہی کے ہمد سے ہے" (انحل: ۱۲۷)

کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبی کی نگاہ میں دنیا و آخرت دونوں ہوتے ہیں جبکہ عام انسانوں کی نگاہیں دنیا کے بھی صرف ظاہر تک محدود ہوتی ہیں۔ **يَتَكَبَّرُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ**۔

اس طرح رفتہ رفتہ دعوت کا حلقہ وسیع ہوا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے کتنے اجتماعات کو آپ نے خطاب فرمایا۔ کتنے لوگوں سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ دُھن کا عالم یہ تھا کہ جب بھی معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ باہر سے آیا ہوا ہے یا کوئی نو وارد کئے میں موجود ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے اور اپنی دعوت پیش فرماتے۔ اسی سے دعوت اور تعلیم و تدریس کا فرق واضح ہوتا ہے علم و مدرس یوں در کی بھٹو کریں نہیں کھاتے بلکہ وہ مطلوب و مرجع ہوتے ہیں اور طالبان علم ان کے پاس آتے اور ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں جبکہ داعی طالب ہوتا ہے اور لوگ مطلوب۔ وہ گھر گھر جاتا ہے، ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، ہر گوش تک اپنی آواز پہنچاتا ہے، لوگ تمسخر کرتے ہیں، تعذیب سے بھی نہیں چوکتے، جھٹلاتے اور دھتکتاتے ہیں تو داعی الی اللہ، رات کے وقت اپنے رب کے حضور میں عاجزی و فروتنی کے ساتھ گڑا گڑا کر اگر ان کی ہر ایت کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ایک ایک کا نام لے کر درگاہت کرتا ہے کہ "باری تعالیٰ! عمر ابن الخطاب یا عمرو بن ہشام میں سے کوئی ایک تو مجھے ضرور ہی عطا فرمادے! ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ بھی نگاہ میں رہے کہ "داعی الی اللہ" کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انتہائی حساس قلب ہوتا ہے جو انسانے نوع کے کفر و انکار پر زری طرح تڑپتا ہے، ان کے انجام بد کے تصور سے اس پر غم و اندوہ کی جو حالت طاری ہوتی ہے اس سے اس پر عین عالم شباب میں بڑھاپے کے آثار طاری ہو جاتے ہیں اور وحی الہی کو بار بار تسلی و تسخنی ہی نہیں محبت آمیز تشبیہ بھی کرنی پڑتی ہے کہ **لَعَلَّكَ بَاطِلٌ مِّمَّا تَدْعِي ۚ لَنْ نَحْمِلَ عَنْكَ وَثْرَةً ۚ اِنَّ لَآيَكُنُوْنَ اٰمُوْنِيْنَ**۔

اور تَمَلَّكَ بِأَخْبَعُ فَفَسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفَاءُ اے رسول کیا تم ان کے کفر و انکار پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم ایسی سخت مشقت میں پڑ جاؤ؛ طہ ۰ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

دعوت کے اساسی نکات

بات طویل ہو جائے گی۔ دعوت کے اس ابتدائی مرحلے کے بعد تعذیب و ابتلا کا جوڑو شروع ہوا اور جن صبر آنا اور جاں نسیل حالات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کرام کو گزرنا پڑا وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں اپنی آج کی گفتگو کو 'دعوت الی اللہ' کی صرف ابتدائی منزلوں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس گفتگو کو ختم کرنے سے قبل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آپ کو ضرور سنا چاہتا ہوں جو یقیناً اسی ابتدائی دور کا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گا کہ دعوت الی اللہ کے اساسی و بنیادی نکات کیا ہیں اور اس میں اول اول کن امور پر زور دیا جاتا ہے؛ خطبات نبوی کی کتابوں میں یہ خطبہ ان الفاظ میں نقل ہوا ہے۔

إِنَّ الرَّأْيِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ وَاللَّهُ لَوْ كَذَّبَتْ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَّبَتْكُمْ
وَلَوْ عَزَرَتْ النَّاسَ جَمِيعًا مَا عَزَرَتْكُمْ۔

"لوگو! تم جانتے ہو کہ راند اپنے قافلے والوں کو کبھی دھوکا نہیں دیتا۔ خدا کی قسم! اگر بفرض حال، میں تمام انسانوں سے بھوٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی دکھتا اور اگر تمام انسانوں کو فریب دے سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ دیتا۔"

وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَآلِي
النَّاسِ كَافَّةً۔

"میں خدا کی قسم جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں! میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور

پوری نوع انسانی کی طرف مومنا؟

وَاللّٰهُ لَمُبْتَلٍ كَمَا تَمَاتُمُونَ - شَعْرَ لَتَبَعْتَن كَمَا تَسْتَقِيظُونَ شَعْرَ
لَتَمَاتُمُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ شَعْرَ لَتَجْزَوُنَّ بِالْاِحْسَانِ اِحْسَانًا وَاَوْ
بِالسُّوْرِ سُوْرًا وَاِنَّهَا لَجَنَّةٌ اَبَدًا اَوْ لَنَارٌ اَبَدًا -

”خدا کی قسم تم سب رجاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر لقیقاً اٹھائے جاؤ گے جیسے
(ہر صبح) بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور پھر لازماً تمہیں
بدلنے کا چھانی کا اچھا اور بُرائی کا بُرا۔ اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے دائمی۔“

اپنے اس خطبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لیے انتہائی بیخ مشال رائد کی ہی
ہے۔ رائد کسی قافلے کا وہ معتمد ترین فرد ہوتا تھا جو سفر کی اگلی منزل کا قلعین کرتا تھا اور قافلے سے
آگے جا کر معلوم کرتا تھا کہ کس جگہ پڑاؤ مناسب رہے گا کہ پانی اور چارے کی سہولتیں فراہم ہوں ظاہر
ہے کہ رائد کے صدق و امانت پر ہی پورے قافلے کی سلامتی کا دار و مدار تھا اور اس کی ذرا سی غلط
بیانی پورے قافلے کی ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی۔ یہی حال نبی کا ہوتا ہے کہ وہ قافلہ دنیا
کو منزلِ آخرت کی خبر دیتا ہے اور یہاں کی مدہوشی و غفلت پر وہاں کے دردناک انجام سے خبردار
کرتا ہے۔ اس انتہائی بیخ پیرائے میں اپنے مقام و منصب کو واضح فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا
کی توحید اور اپنی رسالت کی خبر دیتے ہیں اور پھر لوہا زور اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ غافل
ہو شیار ہو جاؤ و نیند کے ماتو جاگو۔ جیسے روزانہ شام ہوتی ہے ایسے ہی تمہاری پوری زندگی کے دن
پر بھی ایک شام آئے گی، اور جس طرح تم پر روز نیند طاری ہو جاتی ہے اسی طرح اس شام کو موت
تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ پھر جس طرح تم روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو اسی طرح ایک دن تمہیں
موت کی نیند سے اٹھالیا جائے گا۔ (وَذٰلِكَ يَوْمًا تَذٰكُرُوْنَ عَسٰٓى رٰى عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَذٰبًا
يَسِيْرًا) پھر تمہارے زندگی بھر کے اعمال کا حساب ہوگا اور پھر بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلائی

سے یعنی ہمیشہ کے لیے جنت اور برائی کا بُرائی سے یعنی ہمیشہ کی آگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ کے بنیادی اور اساسی نکات تو تین ہی ہیں یعنی توحید، رسالت اور تَعَاوُنِ الْمَلَائِكَةِ ان میں بھی ابتداءً اصل زور آخرت کے محاسبے اور جزا و سزا سے غبردار کرنے پر ہونا چاہیے۔ پورا قرآن مجید اور خصوصاً ابتدائی صحیفات اس پر شاہد عادل ہیں۔ اور دعوت کا جو پہلا حکم آنحضرتؐ کو دیا گیا وہ تو اس پر آخری دلیل اور قطعی حجت ہے۔ ارشاد ہوا: يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ اءِ اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے بکھڑا ہوا اور غبردار کر! اور وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَخْيَرِينَ اور ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دنیا میں نظام دین و شریعت کا نفاذ و قیام دعوت الی اللہ کا ہدف تو یقیناً ہے لیکن اسے ہدفِ بعید کہنا چاہیے۔ اس کا اولین ہدف ابنائے نوح کی اُخروی فلاح و نجات ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بڑا لاؤ ہے اور تم اس میں گر پڑنے کو تیار ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اتنا ہی وہ اس دعوت میں مقدم ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ خاص اپنے گھرانے کے افراد کو لے کر بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ انْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عمة رسول الله انقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اے فاطمہ، محمدؐ کی بیٹی اور اے صفیہ اللہ کے رسول کی چھوٹی! خود اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی تھو کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہ ہو گا!

حضرات! یہ ہیں دعوت الی اللہ کے اصول و مبادی اور یہ ہے اس کا اسلوب و منہج۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو آج کی اس مجلس سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم ان اصولوں اور اس اسلوب پر دعوت الی اللہ کا کام کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ دعوت کا اتباع کریں گے۔ میں نے اپنی اس گفتگو کو دعوت کے ابتدائی مراحل تک اس لیے محدود رکھا ہے کہ مجھے یقین ہے اور میں علی وجہ البصیرت جانتا ہوں کہ اگر اس اسلوب پر دعوت الی اللہ کے چھوٹے

چھوٹے چراغ اور ننھے ننھے دیے ہمارے شہروں، بستوں اور قصبوں میں روشن ہو گئے تو پھر اس دعوت کے اعلیٰ مقامات اور بلند تر منازل کا سامان بھی فراہم ہو جائے گا اور نہ صرف یہ کہ ایک ایسی اجتماعی قوت بہم پہنچ جائے گی جو امت محمدی کے مجملہ اخلاقی و روحانی عوارض کا مداوا کرے اور

وَلَا تَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ کی مصداق بن جائے۔ بلکہ وہ دن بھی دور نہ رہے گا جب یہ امت بحیثیت مجموعی دعوت الی اللہ کے فریضے کو ادا کرے گی اور کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی صحیح معنی میں مصداق ہوگی اور تمام نوع انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جانب سے تمام محبت کرے گی "لَيْسَ كُونِ الرَّسُولِ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ" اس کے عکس اگر ترتیب یہ رہے کہ بلند بانگ دعاوی سے کام شروع کیا جائے اور پہلے ہی قدم پر عالمی انقلاب کا نعرہ لگایا جائے اور نجاتِ اخروی کا بس تبرکاً تذکرہ کر کے قیامِ حکومتِ الہیہ اور نفاذِ نظامِ اسلامی کو اولین ہدف بنا کر جدوجہد شروع کی جائے تو بسا اوقات چند ہی قدم چل کر انسان ہار جاتا ہے اور خود اپنی طے کردہ راہ کی کسی ادنیٰ سی چیز کو اپنا عبوری نصب العین قرار دے کر بس اسی کا ہورہتا ہے۔

فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ! — اِقْوَلْ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ
 لِي وَلِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلَمَاتِ - وَاخْرُجْ دَعْوَانَا
 اِن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

سورہ آل عمران اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلائی رہے نیک کام کی طرف اور حکم سے اچھے کاموں کا اور منع کرے بُرائی سے۔ اور وہی پہنچے اپنی مراد کو!

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ لعلین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امت مسلمہ کے فیہ غناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک رہا ہو جائے

اور اس سطح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دورِ ثانی

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ